

مقدس جگہ حصہ دوئم

ہیلن شرمپٹن۔ کاپی رائٹ 2019 تمام جملہ حقوق محفوظ

www.crystalsandcrochet.com



نمونہ امریکی انگریزی میں لکھا گیا ہے۔

مخفف -

St, sts	ٹانکا،	Sc	سادہ ٹانکا	Bl	اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں
R	چکر	Hdc	آدھا بڑا ٹانکا	Fl	اوپری زنجیر کے اگلے حصے میں
Ch	ٹانکا زنجیر	Dc	بڑا ٹانکا	Bp	ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے
Sl-st	گم ٹانکا	Tr	دو بل ٹانکا	Fp	ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے
		Dtr	تین بل ٹانکا		

اشارہ

آپ کی مدد اور رہنمائی کے لیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ آپ کی مدد کرے گا۔ خصوصاً نئے بنانے والوں کے لئے آسانی کا باعث بننے لگے۔

تصاویر کو اعداد سے ظاہر کیا گیا ہے۔

**دو ستاروں کے درمیان دی گئی ہدایات کو بتانی گئی تعداد میں دہرائیں۔ یہ عام طور پر مکمل طرف کی دہرائی ہوتی ہے۔ اور

اس میں کئی طرح کی ہدایات شامل ہوتی ہیں۔

بریڈتھ کے اندر دی گئی ہدایات کو بتانی گئی تعداد میں دہرائیں []

یہ عام طور پر نچلے درجے کی ہدایات ہوتی ہیں۔ ()

اس نمونے میں کئی خصوصی ٹانکے استعمال کئے گئے ہیں۔ ان کی معلومات کے لئے میرے یوٹیوب چینل پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔

[YouTube Channel Special Stitches](#)

خصوصی ٹانکے -

دو ٹانکوں پر بنا تین بل ٹانکوں کا جھنڈ 2 tr cluster

ہک پہ دو بل ڈال کر ہک کو بتائے گئے ٹانکے یا جگہ میں سے ہک گزار کہ پھندہ کھینچ لیں ہک پہ چار پھندے ہیں بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں ہک پہ دو پھندے ہیں۔ اسی ٹانکے یا جگہ میں اس عمل کو دو بار اور دہرائیں ہک تین پھندے ہیں بل ڈال کر تینوں پھندوں سے اون کھینچ لیں۔

شروعاتی دو ٹانکوں پر بنا تین بل ٹانکوں کا جھنڈ Beginning 2 tr cluster

تین زنجیر ٹانکے بنائیں۔ ہک پہ دو بل ڈال کر اسی ٹانکے یا جگہ میں سے ہک پہ بل ڈال کر پھندہ کھینچ لیں۔ بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں۔ تین بار دہرائیں

وی ٹانکا V Stitch

ایک ہی ٹانکے یا جگہ میں بنایا جاتا ہے۔ بڑا ٹانکا۔ ایک سادہ ٹانکا۔ ایک بڑا ٹانکا))

پھولی مکئی ٹانکا - Popcorn stitch

ایک ہی ٹانکے میں پانچ بڑے ٹانکے بنائیں۔ پھندے سے ہک نکال کر پہلے بڑے ٹانکے میں ہک کو پیچھے سے آگے کی طرف ڈال کر چھوڑے ہوئے پھندے کو کھینچ لیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ یہ زنجیر ٹانکا کسی بھی اگلی زنجیروں کی گنتی میں شامل نہیں کیا جاتا۔ شروعاتی پھولی مکئی ٹانکے کے لئے کھڑے بڑے ٹانکے یا تین زنجیر ٹانکوں سے شروع کریں۔


Fpdtr5 tog

ہک پہ تین بل ڈالیں۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بل ڈال کر پھندہ کھینچ لیں۔ بل ڈال کر دو پھندوں سے اون کھینچ لیں۔ تین بار دہرائیں ہک پہ دو پھندے ہیں۔ اس عمل کو آگے چار ٹانکوں کے گرد اگلی طرف سے دہرائیں۔ ہک پہ چھ پھندے ہیں بل ڈال کر تمام پھندوں سے اون کھینچ لیں۔

اکتیسواں چکر -

کسی بھی ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے کھڑا بڑا ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ اگلے 251 ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔ کھڑے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو مت کاٹیں۔

ٹانکے شمار کرنیں۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے 252 بڑے ٹانکے



بتیسواں چکر -

تین زنجیر ٹانکے بنائیں،۔ (بڑا ٹانکا شمار ہوگا) اس ہی ٹانکے میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ (اگلے چھ ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں۔) [تصویر نمبر دو دیکھئے] 36 بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری دو بڑے ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے بنی تین زنجیر ٹانکوں کی پہلی زنجیر میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرنیں -288 بڑے ٹانکے



اشارہ - اگلا چکر شروع کرنے سے پہلے نشان بکسوبے کچھ اس طرح سے لگائیں۔ پہلا بکسواہ چکر نمبر 26 میں بنے دانہ ٹانکا کے دوسرے سادہ ٹانکے کی سیدھ میں لگے گا۔ دوسرا نشان بکسواہ۔ پہلے بکسوبے کے بعد چوبیسویں ٹانکے میں لگے گا۔ اس ہی طرح بکسوبے لگاتے جائیں۔ کل بارہ بکسوبے لگاتے جائیں گے۔



تینتسواں چکر -

کسی بھی نشان بکسوبے سے پہلے بنے ساتویں ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ اگلے 287 ٹانکوں کے گرد پچھلی طرف سے ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں [تصویر نمبر دو دیکھئے] گم ٹانکے سے پہلے کھڑے ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں۔ اون کو مت کاٹیں۔

ٹانکے شمار کرنیں۔ ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنے 288 سادہ ٹانکے



چونتیسواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں (ٹانکے کے گرد پچھلی طرف سے بنا سادہ ٹانکا جو نشان بکسوبے والے ٹانکے کے گرد بنا ہے) (دو تین بل ٹانکوں کا جھنڈ - ایک زنجیر ٹانکا) چار بار دہرائیں۔ دو تین بل ٹانکوں کا جھنڈ) اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے سترہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر دو دیکھئے] بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری چار سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں

ٹانکے شمار کرنیں فی دہرائی۔ سترہ سادہ ٹانکے۔ پانچ۔ دو بل ٹانکوں کے جھنڈ۔ ایک زنجیر ٹانکے والی چار جگہ



پینتسوان چکر -

کسی بھی جھنڈ سے پہلے بنے پانچوں ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں سادہ ٹانکا بنائیں [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ (اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں۔) (اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی ایک زنجیر جگہ میں دو بڑے ٹانکے بنائیں۔) چار بار دہرائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں دو بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے گیارہ ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر دو دیکھئے] کل بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری دو سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرنیں فی دہرائی۔ گیارہ سادہ ٹانکے۔ بارہ بڑے ٹانکے۔ پانچ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنے بڑے ٹانکے۔



چھنتسوان چکر -

کسی بھی دہرائی کے آخری سادہ ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ (اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) تین بار دہرائیں۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر دو دیکھئے]۔ (بارہ بار دہرائیں آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرنیں فی دہرائی۔ تیرہ سادہ ٹانکے۔ تین سیپیاں سات سات بڑے ٹانکوں کی۔



اشارہ - کام میں استحکام اور مضبوطی کے لئے اوپری زنجیر کے پچھلے اور تیسرے پھندے سے گزار کہ کام کرئیں -

سینتیسواں چکر

کسی بھی دہرائی کے چھٹے سادہ ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر ایک


دیکھئے] (ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں - (اگلے سادہ ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں - دو زنجیر ٹانکے بنائیں اگلی سبھی کے چوتھے بڑے ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں - دو زنجیر ٹانکے بنائیں -) تین بار دہرائیں - اگلے ٹانکے میں وی ٹانکا بنائیں - ایک زنجیر ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے خالی چھوڑ دیں - اگلے تین ٹانکوں میں

ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں -) (تصویر نمبر دو دیکھئے) - کل بارہ بار دہرائیں -

آخری دہرائی میں آخری دو سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں

- ٹانکے شمار کرنیں فی دہرائی -

تین سادہ ٹانکے - اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بننے تین سادہ ٹانکے - چار وی ٹانکے - ایک زنجیر ٹانکے والی دو جگہ - دو زنجیر ٹانکے والی چھ جگہ -



اڑتیسواں چکر -

کسی بھی دہرائی کے پہلے وی ٹانگے سے پہلے آنے والے سادہ ٹانگے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔
 ((وی ٹانگے میں سات بڑے ٹانگے بنائیں۔ اگلے ٹانگے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔) تین
 بار دہرائیں۔ اگلے وی ٹانگے میں سات بڑے ٹانگے بنائیں۔ اگلے تین سادہ ٹانگوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ (تصویر نمبر
 دو دیکھئے)۔ کل بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانگے میں جوڑ کر چکر
 مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔
 ٹانگے شمار کرنیں فی دہرائی۔ چھ سادہ ٹانگے۔ سات سات بڑے ٹانگوں کی چار سیپیاں۔



اونتالیسواں چکر -

کسی بھی دہرائی کی آخری سیپی کے چوتھے بڑے ٹانگے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔
 [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ ٹانگے بنائیں۔ اگلے ٹانگے میں ایک دو بل ٹانکا بنائیں۔ اگلے سادہ ٹانگے میں دو۔ دو بل ٹانگے
 بنائیں۔ ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ (اگلی سیپی کے چوتھے بڑے ٹانگے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک سادہ ٹانکا
 بنائیں۔ تین زنجیر ٹانگے بنائیں۔ اگلے سادہ ٹانگے میں پھولی مکنی ٹانکا بنائیں۔ تین زنجیر ٹانگے بنائیں۔) تین بار دہرائیں۔ اگلی
 سیپی کے چوتھے بڑے ٹانگے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ (تصویر نمبر دو دیکھئے)۔ کل
 بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بنا سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ
 ایک زنجیر ٹانکا بنائیں۔ اگلے سادہ ٹانگے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں
 دو۔ دو بل۔

ٹانگے شمار کرنیں فی دہرائی۔ اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بننے چار سادہ ٹانگے۔ تین پھولی مکنی ٹانگے۔ پانچ۔ دو
 بل ٹانگے دو زنجیر ٹانگے والی ہک جگہ۔ تین زنجیر ٹانگے والی چھ جگہ۔



چالیسواں چکر


کسی بھی دہرائی کے آخری پھولی مکئی ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔

(تین زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے میں بڑا ٹانکا بنائیں - اگلی ایک زنجیر جگہ میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں -

اگلے پانچ ٹانکوں میں ٹانکے کی اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں ایک ایک بڑا ٹانکا بنائیں - اگلی ایک زنجیر جگہ میں بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے میں ایک بڑا ٹانکا بنائیں - تین زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں - اگلی تین زنجیر جگہ میں تین بڑے ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلی تین زنجیر جگہ میں تین سادہ ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے ٹانکے میں آدھا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلی تین زنجیر جگہ میں تین سادہ ٹانکے بنائیں - اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں - (تصویر نمبر دو دیکھئے) - کل بارہ بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا بڑا ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے بڑے ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں - اون کو مت کاٹیں

ٹانکے شمار کرنیں - فی دہرائی

چھ سادہ ٹانکے - ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا ایک سادہ ٹانکا. آٹھ آدھے بڑے ٹانکے - دس بڑے ٹانکے - اوپری زنجیر کے پچھلے حصے میں بننے پانچ بڑے ٹانکے - ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بننے دو بڑے ٹانکے -



اکتالیسواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک ادھا بڑا ٹانکا بنائیں - اگلے تین سو تراسی ٹانکوں میں ایک ایک ادھا بڑا ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - پہلے ادھے بڑے ٹانکے میں جوڑتے ہوئے چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

ٹانکے شمار کرنیں - فی دہرائی تین سو چوراسی ادھے بڑے ٹانکے



بیالیسواں چکر -

چکر نمبر انتالیس کے دو بل ٹانکوں کے گروپ سے پہلے بنی ایک زنجیر جگہ میں بننے بڑے ٹانکے پہ بننے ادھا بڑے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں - اگلے دو ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر ایک دیکھئے] - چکر نمبر چالیس کے سامنے کی طرف کام کرنا ہے - چکر نمبر انتالیس کے پانچ ٹانکوں میں ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے پانچ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں - چکر نمبر چالیس کا اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں - اگلے اکتیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں - [تصویر نمبر دو دیکھئے] کل بارہ بار دہرائیں - آخری دہرائی میں آخری تین سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں -

(ٹانکے شمار کرنیں فی دہرائی اکتیس سادہ ٹانکے - پانچ - تین بل ٹانکوں کا ایک جھنڈ)



ترتالیسواں چکر -

کسی بھی پانچ تین بل ٹانکوں کے جھنڈ سے پہلے پانچویں ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے تین ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے سادہ ٹانکا بنائیں۔ (پانچ تین بل ٹانکوں کا جھنڈ ہوگا) اگلا ٹانکا خالی چھوڑ دیں اگلے انتیس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر دو دیکھئے]۔ کل بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری چار سادہ ٹانکے چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں گم ٹانکے سے جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اور اون کو مت کاٹیں

ٹانکے شمار کرنیں فی دہرائی۔ انتیس سادہ ٹانکے۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا ایک سادہ ٹانکا



چوالیسواں چکر -

ایک زنجیر ٹانکا بنائیں اور اس ہی ٹانکے میں ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ اگلے تین ٹانکے خالی چھوڑ دیں اگلے ٹانکے میں (ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا سادہ ٹانکا ہوگا)۔ (تین - دو بل ٹانکوں کا جھنڈ - تین زنجیر ٹانکے -) دو بار دہرائیں۔ تین - دو بل ٹانکوں کا جھنڈ بنائیں۔ اگلے تین خالی چھوڑ دیں۔ (اگلے سات ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں دو سادہ ٹانکے بنائیں۔) دو بار دہرائیں۔ اگلے سات ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ [تصویر نمبر دو دیکھئے]۔ کل بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر (مکمل کر لیں اور اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرنیں۔ فی دہرائی پچیس سادہ ٹانکے۔ تین - تین - دو بل ٹانکوں کا جھنڈ - تین زنجیر ٹانکے والی دو جگہ



پینتالیسواں چکر

کسی بھی جھنڈ سے پہلے بنے تیسرے ٹانکے میں کھڑا سادہ ٹانکا بنائیں [- تصویر نمبر ایک دیکھئے]۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلی تین زنجیر جگہ میں پانچ بڑے ٹانکے۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے دو بل ٹانکا بنائیں۔ اگلی تین زنجیر جگہ میں پانچ بڑے ٹانکے بنائیں۔ اگلے ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بڑا ٹانکا بنائیں۔ اگلے دو ٹانکے خالی چھوڑ دیں۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں۔ اگلے ٹانکے میں دو سادہ ٹانکے بنائیں۔ اگلے دس ٹانکوں میں ایک ایک سادہ ٹانکا بنائیں [- تصویر نمبر دو دیکھئے]۔

کل بارہ بار دہرائیں۔ آخری دہرائی میں آخری سادہ ٹانکا چھوڑتے ہوئے پہلے کھڑے سادہ ٹانکے میں جوڑ کر چکر مکمل کر لیں اون کو کاٹ کر سرے کو محفوظ کر لیں۔

ٹانکے شمار کرئیں فی دہرائی۔ بائیس سادہ ٹانکے۔ دس بڑے ٹانکے۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بننے دو بڑے ٹانکے۔ ٹانکے کے گرد اگلی طرف سے بنا ایک دو بل ٹانکا



حصہ دوئم اختتام پذیر ہوا۔

اگر آپ کام کو بلاک کرنا چاہتے ہیں تو اسے کھینچنے مت صرف ہاتھوں سے درست کر لیں اور پن لگا کہ ایگریلیک اون کو بیئر ڈرائیور کی مدد سے گرمی دیں۔ قدرتی ریشوں کو ہلکا سا نم کر کے خشک ہونے دیں۔

ہمارے کروشے آلونگ میں شامل ہونے کا شکریہ۔

مدد اور رہنمائی کے لیے ہمارا فیس بک گروپ ہیلن ہکولک میں شامل ہوسکتے ہیں۔

<https://www.facebook.com/groups/helenshookaholics/>

Original Design by Helen Shrimpton ♥ Copyright © 2019 ♥ All Rights Reserved.

♥ برائے مہربانی اس بات کو یاد رکھئے گا کہ یہ میرا نمونہ ہے اور اس پہ کاپی رائٹ ایکٹ لاگو ہوتا ہے۔ آپ میرے ویب سائٹ یا ریولری سٹور کی معلومات یا لنک کسی کو بھی دئے سکتے ہیں۔ آپ اسکا پی ڈی ایف اپنے استعمال کے لئے چھاپ سکتے ہیں لیکن برائے مہربانی اس میں کچھ بھی تبدیل یا بدل نہیں سکتے۔
برائے مہربانی میرا احترام کیجیے جیسے کہ میں آپ کا کرتی ہوں۔

آپکی ہیلن ♥